



Lakeridge  
Health

17 اپریل 2020

Durham علاقے کے دوستو اور ہمسائیو،

کورونا وائرس کی عالمی وباء کے دوران Lakeridge Health ٹیم کے ساتھ آپ کی غیر متزلزل معاونت، دوستی اور اخلاص کے لیے شکریہ۔

ذاتی پیغامات، ہمدردانہ افعال اور آلات اور خدمات کے مالی عطیات کے ذریعے، علاقے کے لوگ ہماری ٹیم کو صحت مند، محفوظ اور فعال رکھنے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ Durham کے پورے علاقے میں لوگوں کی دیکھ بھال اور معاونت کی جائے۔

چونکہ Ontario نے 17 مارچ کو ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا تھا، ہم سب سے ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں جسمانی فاصلے اور گھر پر رہنے کے ذریعے ڈرامائی تبدیلیاں لانے کے لیے کہا گیا ہے۔

یہ قربانیاں اس عالمی وباء کے عرصے کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہیں - اور وہ کارگر ہیں! اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ Durham کے علاقے میں وائرس کا پھیلاؤ سست ہونا شروع ہو گیا ہے۔

یہ مثبت خبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ خود کو، اپنے عزیزوں کو اور پورے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس شاندار سماجی کوشش کو جاری رکھیں۔

جن لوگوں کو بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری یا دیگر علامات ہیں انہیں چاہیئے کہ فوری طور پر بنیادی نگہداشت کے معالج یا Durham علاقے کے محکمہ صحت سے رابطہ کریں اور [www.lakeridgehealth.on.ca](http://www.lakeridgehealth.on.ca) پر کورونا وائرس کی تشخیص کا ایک آن لائن فارم مکمل کریں۔

وہ لوگ جو بہت بیمار ہیں اور انہیں فوری طبی توجہ کی ضرورت ہے انہیں شعبہ ہنگامی حالات میں جانا چاہیئے - Lakeridge Health کے ہسپتال موجود ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو محفوظ، شاندار نگہداشت فراہم کرنے میں مخلص ہیں۔

جبکہ آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، Lakeridge Health کی ٹیم وائرس پر قابو پانے اور ہر کسی کو محفوظ رکھنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔

صحیابی کے ذریعے کورونا وائرس کے مریضوں کی معاونت کرنا

بماری انتہائی نگہداشت کی ٹیم نے سانس لینے میں مدد کے لیے وینٹی لیٹر پر موجود 10 سے زیادہ مریضوں کی سانس لینے کی نالیاں اتار دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مریضوں کے پھیپھڑوں کا فعل ٹھیک ہو رہا ہے اور وہ صحتیابی کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ مریضوں، ان کے اہل خانہ اور ہماری ٹیموں کے لیے ایک شاندار خبر ہے۔

**علاقے میں اور طویل مدتی نگہداشت کے مراکز میں کورونا وائرس سے لڑنے میں مدد کرنا**  
وائرس کی روک تھام کے لیے طویل مدتی نگہداشت (LTC) اور ریٹائرمنٹ ہومز کی معاونت کرنے اور ہمارے علاقے کے حساس افراد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے Lakeridge Health ہماری مہارتوں اور وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔

Lakeridge Health، دیگر بہت سے سماجی شراکت داروں کے ساتھ مل کر، مکینوں اور عملے کی بڑے پیمانے پر جانچ کاری کے ذریعے LTC اور ریٹائرمنٹ ہومز کی معاونت کر رہی ہے، انفیکشن پر قابو پانے میں ماہرانہ معاونت فراہم کرتے ہوئے، اور خیالی (ورچوئل) ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مکینوں کو نگہداشت اور طبی خدمات فراہم کر کے۔

اس ہفتے سے آغاز کرتے ہوئے، Durham علاقے کے مکین جن میں کورونا وائرس کا گمان یا مصدقہ کیس ہے اور انہیں چھٹی دے کر گھر بھیج دیا گیا ہے ان کی صحتیابی میں معاونت کے لیے ان کی رسائی صحت کی انتہائی نگہداشت خدمات تک ہو گی۔ *Virtual Ward* گھر پر نگہداشت کرنے والی نرسوں اور Lakeridge Health کے معالجوں کو ہر ایک مریض کے موبائل پر ایک آن لائن ایپ کے ذریعے نگرانی اور معاونت کرنے کے قابل بناتا ہے۔

**مدد کرنے کے دو اہم طریقے**  
آلات، خدمات یا ٹیم کی بہبود میں معاونت کرنے والی اشیاء عطیہ کرنے کے لیے [COVID19GIVING@lh.ca](mailto:COVID19GIVING@lh.ca) سے رابطہ کریں۔

اپنی مالی معاونت کی پیشکش کرنے کے لیے، براہ کرم [www.durhamfightscovid19.ca](http://www.durhamfightscovid19.ca) پر *Durham Fights COVID-19* مہم میں عطیات دیں۔ آپ کے عطیات Lakeridge Health کے مقامی ہسپتالوں میں بھجوائے جا سکتے ہیں اور تین ترجیحات میں مدد کریں گے: مریض کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے وسائل، طبی آلات اور ہمارے ہسپتال کی ٹیم کے ارکان کے لیے دیکھ بھال کی اشیاء۔

آپ کی ہمدردی اور فیاضی کا ایک بار پھر شکریہ۔ سب سے بڑھ کر۔ وہ سب کچھ کرنے کا شکریہ جو آپ ہمارے علاقے اور محکمہ صحت کی ٹیموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔

آپ کے لیے اچھی صحت کی تمنائیں،

Susan deRyk  
Interim President and CEO

Dr. Tony Stone  
Chief of Staff